

## 2293- کیا باسکٹ بال کھینا قبول اسلام کے منافی اور معارض ہے

### سوال

میں غیر مسلم نوجوان ہوتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ میں قبول اسلام کے بعد بھی اپنا باسکٹ بال کھیل جاری رکھ سکتا ہوں؟

### پسندیدہ جواب

بھی ہاں آپ اسلام قبول کر کے باسکٹ بال کھیل سکتے ہیں جب کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہو، اور پھر اسلام جسم کے لیے مفید اور جسم کے عملیات اور اعضاء کو مضبوط کرنے والے کھلیوں کو منوع قرار نہیں دیتا۔

بلکہ انسان پر جسم کا حق ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

(یقیناً آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے) صحیح بخاری حدیث نمبر (4800)۔

اور باسکٹ بال کے فوائد میں نشانہ صحیح کرنا بھی شامل ہے اس سے ہدف کو باریک بینی سے ہٹ کرنے کا علم ہوتا ہے تو جب تک اس میں کوئی حرام کردہ کام نہ ہو باسکٹ بال کھیندا جائز ہے مثلاً اس میں جو یا پھر سڑوالی جگہ کونگا کرنا یا کسی کوتلکیت دینا اور جان بوجھ کرنا نیماز کی ادائیگی میں رکاوٹ وغیرہ شامل نہ ہوں۔

اسی مناسبت سے میرے خیال میں آپ پر باسکٹ بال کے عالمی کھلاڑیوں میں سے بھی کچھ نے اسلام قبول کیا ہے وہ آپ پر مختی نہیں ہوں گے تو میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ قبول اسلام میں تردد کا شکار نہ ہوں اور نہ ہی اسلام میں داخل ہونے میں تاخیر سے کام لیں اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز مانع نہیں ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوہیں کہ وہ آپ کو حق کی اتباع و پیروی کی توفیق دے اور آپ کو راہ حق کی راہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی حدايت سے نوازتا ہے۔  
واللہ اعلم۔